



4713CH14

مولانا ابوالکلام آزاد

مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اُن کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور واعظ تھے۔ مولانا آزاد کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاج رکھتا



تھا۔ انھیں بچپن سے مطالعے کا شوق تھا۔ مگر ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں اور وقت خراب کریں۔ لیکن مولانا آزاد کا شوق کسی طرح کم نہیں ہوا۔ وہ اپنا یہ شوق اس طرح پورا کرتے کہ اپنے جیب خرچ سے موم بتیاں خرید کر لاتے اور جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے تو موم بتی جلا کر لحاف کے اندر پڑھتے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ایک مرتبہ لحاف بھی جلا دیا۔

مولانا آزاد کی ادبی زندگی کا آغاز گیارہ بارہ سال کی عمر سے ہوا۔ انھوں نے تیرہ برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ ان کا حافظہ بلا کا تیز تھا۔ وہ پہلے شاعری اور بعد میں نثر کی جانب متوجہ ہوئے۔ مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص 'آزاد' رکھا، اس کے بعد انھیں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے شہرت ملی۔ مولانا ابوالکلام نے پندرہ برس کی عمر میں 'لسان الصدق' جیسے جریدے کی ادارت کی۔ اور بیس سال کی عمر میں اخبار 'الہلال' کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا۔ اس کے بعد 'البلاغ' جاری کیا۔ ان دونوں اخباروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مولانا کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے۔ انھوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے اندر نفرت کے بیج بوکر انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنا

چاہتے ہیں۔ مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ انھوں نے اپنے خطبات اور مضامین میں بھی یہ بتایا کہ مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ اپنے سیاسی نظریات اور پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا، مگر وہ بہادر اور نڈر سپاہی کی طرح وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔

مولانا آزاد سچے محب وطن تھے۔ انھوں نے وطن کی آزادی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ انھوں نے ’دوقومی نظریے‘ کی مخالفت کی۔ مسلمانوں کو تقسیم کے خطرات سے آگاہ کیا۔ تقسیم کے بعد جو فسادات ہوئے اس سے وہ بہت افسردہ تھے۔ انھوں نے دہلی کی جامع مسجد میں ہندوستانی مسلمانوں کے ایک جلسے کو خطاب کیا۔ اس تقریر کے ایک ایک لفظ سے درد مندی کا اظہار ہوتا ہے:

”عزیزو! ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے۔ اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو، جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔“

مولانا آزاد، مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لعل نہرو سے بہت قریب تھے۔ یہ دونوں بھی مولانا کی بہت عزت کرتے تھے۔ انھیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے۔ اس میں بڑی تاثیر تھی۔ بہت اچھی اور زور دار تقریر کرتے تھے۔ انگریز حکمرانوں سے ڈرتے تھے۔ جنگِ آزادی کے دوران مولانا نے جو تقریریں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔

آزادی کے بعد وہ پہلے وزیرِ تعلیم بنے۔ وہ تعلیم سے سماج میں تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ انسانی شعور کی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے۔ انھوں نے ملک کے تعلیمی نظام کا تفصیلی جائزہ لینے

کے لیے کئی کمیشن قائم کیے۔ انھوں نے جو بڑے ثقافتی ادارے قائم کیے ان میں سہیتہ اکادمی، سنگیت اکادمی اور للت کلا اکادمی بہت مشہور ہیں۔ انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنس (ICCR) ان ہی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین، خطبات، مقالات اور مکاتیب کے مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ’قول فیصل‘، ’تذکرہ مقالات آزاد‘، ’ترجمان القرآن‘ اور ’غبارِ خاطر‘ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ مولانا کا انتقال 1958 میں ہوا۔

معنی یاد کیجیے

عالم دین	:	دین کا علم جاننے والا
واعظ	:	وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا
پرورش	:	پالنا، تعلیم و تربیت
مطالعہ	:	پڑھنا
تخلص	:	وہ مختصر نام جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں
جریدہ	:	اخبار، رسالہ
بیدار	:	جاگتا ہوا، ہوشیار، باخبر
خطبات	:	خطبہ کی جمع، تقریریں
ایڈیٹر	:	کتاب، رسالے یا اخبار کا مدیر
مجاہد	:	جہاد کرنے والا، جاں باز، اللہ کی راہ میں لڑنے والا
مستحکم	:	مضبوط

اتحاد	:	دوستی، محبت، ایک ہو جانا
نظر بند کرنا	:	نقل و حرکت پر پابندی لگانا
محبتِ وطن	:	وطن سے محبت کرنے والا
صعوبتیں	:	صعوبت کی جمع، پریشانیاں
تاثیر	:	اثر

سوچیے اور بتائیے۔

1. مولانا ابولکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟
2. مولانا آزاد کی پرورش کیسے خاندان میں ہوئی؟
3. مولانا آزاد کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا؟
4. مولانا کا تخلص 'آزاد' کس نے رکھا؟
5. مولانا نے کون کون سے اخبار جاری کیے؟
6. ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مولانا آزاد نے کیا خدمات انجام دیں؟
7. مولانا آزاد نے کس نظریے کی مخالفت کی؟
8. گاندھی جی اور نہرو جی کی نظروں میں مولانا کا کیا مقام تھا؟
9. مولانا آزاد سے انگریز حکمران کیوں ڈرتے تھے؟
10. آزادی کے بعد مولانا کو کون سا عہدہ دیا گیا؟
11. مولانا آزاد نے کون کون سے ادارے قائم کیے؟

12. مولانا آزاد کی دو مشہور کتابوں کے نام لکھیے؟

13. مولانا آزاد کا انتقال کب ہوا؟

خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے۔

1. مولانا ابوالکلام آزاد _____ میں پیدا ہوئے۔
2. مولانا آزاد کو بچپن ہی سے _____ کا شوق تھا۔
3. انھوں نے تیرہ برس میں _____ کی تعلیم مکمل کی۔
4. مولانا بیس سال کی عمر میں اخبار _____ کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا۔
5. ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مولانا نے بہت اہم _____ ادا کیا۔
6. انھوں نے متحدہ قومیت اور ہندو مسلم _____ پر زور دیا۔
7. مولانا آزاد _____ اور پنڈت جواہر لعل نہرو سے بہت قریب تھے۔
8. مولانا بڑی اچھی _____ لکھتے اور بولتے تھے۔
9. آزادی کے بعد وہ پہلے _____ بنے۔

صحیح جملے پر (✓) اور غلط پر (×) کا نشان لگائیے۔

1. مولانا کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور واعظ تھے۔ ()
2. مولانا آزاد کو مطالعے کا شوق بالکل نہیں تھا۔ ()
3. مولانا کے والد کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں۔ ()

4. وہ چالیس سال کی عمر میں اخبار 'الہلال' کے ایڈیٹر بنے۔ ()
5. مولانا نے دو قومی نظریے کی پرزور مخالفت کی۔ ()
6. گاندھی جی اور نہرو جی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ()
7. 'تذکرہ'، 'قول فیصل'، 'مقالات آزاد'، 'ترجمان القرآن' اور 'غبارِ خاطر' ان کی کتابیں نہیں ہیں۔ ()

بلند آواز سے پڑھیے۔

واعظ تخلص الہلال لسان الصدق البلاغ متحدہ قومیت نظر بند ایڈیٹر

نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔

پسند خراب زندگی آغاز آزادی نفرت عزت بہادر

واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔

خاندان خطبات خواب مضامین نظریہ زبان تقریریں
حکمرانوں مقالہ مکاتیب وقت موم بتیاں انگریز

مذکر اور مؤنث الگ کیجیے۔

نام مطالعہ شوق والد کتاب وقت جیب بازار موم بتی
لحاف عزت دوست مشورہ زبان تقریر جدوجہد آزادی

نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔

پرورش مطالعہ تعلیم حافظہ مجاہد محب وطن ایڈیٹر نظر بند

غور کیجیے اور لکھیے۔

- محی الدین مّمہ کتاب موم بتی مولوی عبدالواحد
- جامع مسجد دہلی مہاتما گاندھی پنڈت جواہر لعل نہرو ساہتیہ اکادمی
- یہ سب الفاظ لوگوں، جگہوں اور چیزوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں ایسے الفاظ اسم کہلاتے ہیں۔ مختلف قسم کے پانچ پانچ اسم لکھیے۔

یاد رکھیے۔

1. مولانا ابوالکلام آزاد، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔
2. وہ بڑی اچھی اور زور دار تقریر کرتے تھے۔
3. مولانا ابوالکلام آزاد کا مزار مینا بازار، جامع مسجد دہلی میں ہے۔

عملی کام

- ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں جن رہنماؤں نے اہم رول ادا کیا ان کی تصاویر اکٹھا کیجیے اور ان پر پانچ پانچ جملے لکھیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب 'غبارِ خاطر' میں 'چڑیا اور چڑے' کی کہانی اپنے اسکول کی لائبریری میں جا کر پڑھیے۔

غور کرنے کی بات

- مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے عظیم لوگوں میں سے ہیں۔ وہ ایک سچے محب وطن تھے۔ انھوں نے اہل وطن کی بہترین

رہنمائی کی۔ جب وطن میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی اسی وقت دو قومی نظریہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لہذا دونوں کے لیے الگ الگ ملک ہونا چاہیے۔ مولانا نے اس نظریے کی شدید مخالفت کی کیوں کہ اس سے فرقہ پرستی پیدا ہو رہی تھی۔ مولانا آزاد نے اندازہ لگا لیا کہ اس نظریے کی وجہ سے ملک تقسیم ہو جائے گا اور ان کا خیال صحیح ثابت ہوا۔ مولانا آزاد ہمیشہ اتحاد و اتفاق کے لیے کام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے مہاتما گاندھی اور جواہر لعل نہرو جیسے بڑے رہنما بھی مولانا آزاد کا بے حد احترام کرتے تھے۔ مولانا کی زندگی ایک محبت وطن کی کھری اور سچی مثال ہے۔